



## سوال

(200) جنات اور انسانوں میں نکاح و ازدواج کا مسئلہ

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

انسان کے مرد اور جن کی عورت میں ازدواج و صحبت جائز ہے یا نہیں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جس طرح انسان کے مرد کو دوسرے کسی جنس کی مادہ سے صحبت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ انسان کے مرد کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کی عورت کو بنایا ہے اسی طرح جن کی عورت سے بھی ہم جفت ہونا اور صحبت کرنا خواہ نکاح سے ہو یا بغیر نکاح کے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل رکوع (10) میں فرمایا:

وَالَّذِي يَخُلَّ إِلَيْكَ مِنَ الْوُجُوهِ فَهِيَ أَغْلَبٌ... سورة النحل ۷۲

"اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے۔" سورۃ روم رکوع (3) میں فرمایا:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا... سورة الروم ۲۱

"اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے کہ تم ان سے آرام پاؤ۔"

امام احمد والبوداؤد وترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: (مَنْ ذَكَرَهُ وَفَعَّ عَلَى بَيْتِهِ فَتَحَهُ) [11]

(رواہ احمد والبوداؤد وترمذی مستقی الاخبار متن نیل الاوطار: 31/7)

"جو شخص چار پایہ کے ساتھ وطی کرے تو اس کو مارڈالو اور اس چار پایہ کو بھی مارڈالو۔" واللہ اعلم بالصواب۔ کتبہ: محمد عبداللہ۔



[1] - مسند احمد (1/369) سنن ابی داؤد رقم الحدیث (4462) سنن الترمذی رقم الحدیث (1455)

حدیث امام عسکری والشداء علم بالصواب

## مجموعہ فتاویٰ عبداللہ غازی پوری

کتاب النکاح، صفحہ: 395

محدث فتویٰ